

کتاب دانیال - شماره یکصد و چہلم

آخری وعدہ: یوم خداوند سے پہلے ایلہاہ کے کردار کا انکشاف

Jeff Pippenger

2024-03-16

آخرین وعدہ عہد عتیق این است کہ پیش از روز عظیم و ہولناک خداوند، ایلہا خواہد آمد۔

شما شریعت موسیٰ، بندہ مرا، کہ آن را در حوریب برای تمامی اسرائیل، با فرایض و احکام، بہ او امر فرمودم، بہ یاد آورید۔ اینک، من ایلہای نبی را پیش از فرا رسیدن روز عظیم و ہولناک خداوند نزد شما خواہم فرستاد؛ و او دل پدران را بہ سوی فرزندان، و دل فرزندان را بہ سوی پدرانشان باز خواہد گردانید، مبادا بیایم و زمین را بہ لعنت بزنم۔ ملاکی ۴:۴-۵

آن ایلہای کہ پیشاپیش «روز عظیم و مہیب خداوند» می آید، ہم یک رسول فردی است و ہم جنبشی کہ با پیامی کہ آن رسول اعلام می کند پیوند دارد۔ بنابراین، ایلہایی کہ فرستادہ می شود، همان صد و چہل و چہار ہزار نفری ہستند کہ مرگ را نمی چشند، چنان کہ خنوخ و ایلہا نمایانگر آن اند۔ ایشان کسانی ہستند کہ در ہنگام قانون یکشنبہ ای کہ بہ زودی خواہد آمد، همچون علمی افراشتہ می شوند۔

آخری دنوں کا ایلہاہ یوحنا اصطباغی کے ذریعہ بھی ممثل کیا گیا تھا، لیکن یوحنا ایک لاکھ چوالیس ہزار کی نمائندگی نہیں کرتا تھا۔ وہ اُن لوگوں کی نمائندگی کرتا تھا جو اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں اور آخری دن کے قاصد کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اتوار کے قانون کے بحران کی اُس گھڑی میں، جو عنقریب آنے والے اتوار کے قانون سے شروع ہوتی ہے اور اُس وقت اختتام پذیر ہوتی ہے جب میکائیل کھڑا ہوتا ہے اور پاپائیت کا انجام ہو جاتا ہے اور اُس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، پاپائیت کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے ہیں۔

ایلہا بر کوہ کرمل نمایانہ شدہ است و یحییٰ در تالار بزم ہیرودیس نمایانہ شدہ است۔ این دو شاہد تاریخی، دو گروہ از قوم خدا در ایام آخر را کہ در باب ہفتم مکاشفہ نمایانہ شدہ اند، مشخص می سازند۔ یک صد و چہل و چہار ہزار نفر و آن جماعت عظیم با کوہ کرمل و جشن تولد ہیرودیس متناظرند۔ این دو خط نبوت، نقطہ مرجعی استوار فراہم می آورند تا عناصر سر ہشتم، یعنی آن کہ از ہفت سر مذکور در مکاشفہ ہفدہ است، با دقت شناسایی شوند، ہمراہ با جزئیات نبوتی کافی برای روشن ساختن این کہ چگونہ و چرا آخرین رئیس جمہور، کہ همان رئیس جمہور ہشتم و از آن ہفت است، در آخرین حرکات پادشاہی ششم نبوت کتاب مقدس، دیکتاتور بزرگ ایالات متحدہ می شود۔

در زمان قانون یکشنبہ، اتحاد سہ گانہ تحقق می یابد۔

«با صدور فرمانی کہ استقرار پاپیت را در نقض شریعت خدا الزام آور سازد، ملت ما خود را بہ طور کامل از پارسایی جدا خواہد کرد۔ ہنگامی کہ پروتستانٹیسزم دست خود را از فراز این شکاف دراز کند تا دست قدرت رومی را بفشارد، ہنگامی کہ از فراز این مفاک دست دراز کند تا با روح گرای دست بدہد، ہنگامی کہ، تحت تأثیر این اتحاد سہ گانہ، کشور ما ہر اصل قانون اساسی خود را بہ عنوان حکومتی پروتستان و جمہوری خواہ انکار کند و برای اشاعہ باطل ہا و فریب ہای پاپی تمہیداتی فراہم آورد، آنگاہ خواہیم دانست کہ زمان کار شگفت انگیز شیطان فرا رسیدہ و پایان نزدیک است۔» Testimonies, volume 5, 451

مع ذلك، ففي هذا التمثيل تسلسل، وهذا التسلسل موضوع في الكلمة الموحى بها. إنه حدث يقع عند المرسوم، وهو من وجه ما حدث واحد، لكنه في الحقيقة تسلسل دقيق جداً من الأحداث. فعند «المرسوم» تكف الولايات المتحدة عن أن تكون المملكة السادسة في نبوة الكتاب المقدس، مما يعني أن المملكة السابعة تبدأ هناك، غير أن المملكة السابعة توافق على أن تُعطي ملكها للوحش. وعندما يهزم النبي الكذاب، يأخذ التتین موضعه، ويُعطي الوحش على الفور نصف مملكته.

در کوه کرمل، چهارصد و پنجاه نبی بعل بودند، و نیز چهارصد نبی بستان که در سامره بر سفره ایزابل طعام می‌خوردند.

پس اکنون بفرست و تمامی اسرائیل را نزد من بر کوه کرمل گرد آور، و انبیای بعل، چهارصد و پنجاه نفر، و انبیای بیثیه‌ها، چهارصد نفر را نیز، که بر سفره ایزابل نان می‌خورند. اول پادشاهان ۱۸:۱۹.

ایلیا مواجهه بر کوه کرمل را چونان مجادله‌ای معرفی می‌کند؛ نه فقط درباره این پرسش که خدای حقیقی کدام است، بلکه نیز درباره این که نبی حقیقی کیست.

پس ایلیا به قوم گفت: من، یعنی تنها من، نبی یهوه باقی مانده‌ام؛ اما انبیای بعل چهارصد و پنجاه مردند. ۱ پادشاهان ۱۸:۲۲

چون قربانی الیاس به آتشی که از آسمان فرود آمد سوخته شد، آنگاه او خود با دستان خویش آن چهارصد و پنجاه نبی بعل را کشت.

و ایلیاه نے اُن سے کہا، بعل کے نبیوں کو پکڑ لو؛ اُن میں سے ایک بھی نہ بچے پائے۔ چنانچہ اُنہوں نے انہیں پکڑ لیا؛ اور ایلیاہ اُن کو نالہ قیثون کے پاس لے گیا، اور وہاں انہیں قتل کر ڈالا۔ 1 سلطانی 18:40.

بعل ایک جھوٹا مذکر معبود تھا، اور اُس جھنڈ کے چار سو نبی، جو اب بھی ایزبل کے ساتھ تھے اور سامریہ شہر میں اُس کے دسترخوان پر کھاتے تھے، مؤنث دیوی، عشتاروت، کے نبی تھے۔ مؤنث دیوی کوه کرمل کے نبیوں کے ایلیاہ کے ہاتھوں قتل عام سے بچ نکلی۔

مردم بر فراز کوه، در برابر خدای نادیده، با ترس و هیبت به خاک می‌افتند. آنان نمی‌توانند بر آن آتش درخشان و سوزاننده‌ای که از آسمان فرستاده شده است بنگرند. بیم دارند که در ارتداد و گناهان خویش نابود شوند. همگی با یک صدا فریاد برمی‌آورند؛ صدایی که بر فراز کوه طنین می‌افکند و با وضوحی هولناک تا دشت‌های زیر پای آنان باز می‌پیچد: «یهوه، او خداست؛ یهوه، او خداست.» اسرائیل سرانجام بیدار می‌شود و فریب‌خوردگی‌اش از میان می‌رود. آنان گناه خود و این را که تا چه اندازه به خدا اهانت کرده‌اند، می‌بینند. خشم ایشان بر ضد انبیای بعل برانگیخته می‌شود. آخاب و کاهنان بعل، با هراسی سهمگین، این نمایش شگفت‌انگیز قدرت یهوه را مشاهده کردند. بار دیگر، صدای ایلیا در کلمات تکان‌دهنده و آمرانه به گوش مردم می‌رسد: «انبیای بعل را بگیرید؛ مگذارید حتی یکی از ایشان بگریزد.» و مردم آماده بودند که از کلام ایلیا اطاعت کنند. آنان آن انبیای دروغین را که گمراهشان ساخته بودند، گرفتند و به نهر قیثون آوردند، و در آنجا ایلیا با دست خود این کاهنان بت‌پرست را کشت. Review and Herald, October 7, 1873

کوه کرمل ممثّل قانون یکشنبه‌ای است که به زودی در ایالات متحده برقرار خواهد شد. در آن هنگام است که علم آن یکصد و چهل و چهار هزار نفر (که به وسیله ایلیا ممثّل شده‌اند) برافراشته می‌شود. در آنجاست که شاخ حقیقی پروتستان به روشنی در تقابل با شاخ جعلی پروتستان آشکار می‌گردد؛ همان که در سامره است و خوراک ایزابل را می‌خورد. در آنجاست که شاخ جمهوری‌خواه، که تا پیش از

کوه کرمل به شاخ هر دو، کلیسا و دولت، بدل شده بود، به عنوان ششمین پادشاهی نبوت کتاب مقدس به پایان خود می‌رسد. آن‌گاه آنچه باقی می‌ماند، آخاب و قوم ده‌گانه او، و ایزابل است که در سامره پنهان شده بوده است، در حالی که با پروتستان‌های مرتد هم‌سفره است. پادشاهی ششم به پایان رسیده است، و سپس باران بی‌پیمانه فرو می‌بارد.

در جشن تولد هیروودیس، ایلیا که در شخص یحیی تعمیددهنده نمود یافته است، در زندان روم در انتظار رهایی یا مرگ به سر می‌برد. دیگر انبیای بعل نیستند تا رقص فریب را به انجام رسانند؛ تنها سالومه، دختر ایزابل، حاضر است. هیروودیس و دوستان سلطنتی‌اش از شراب بابل مست‌اند، زیرا تولد او همچنین نمایانگر قانون یکشنبه است، و همه امت‌ها در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بسیار پیش از قانون یکشنبه‌ای که به زودی خواهد آمد، نوشیدن شراب بابل را آغاز کردند.

اور ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، جسے بڑا اختیار حاصل تھا؛ اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی۔ اور اس نے بلند آواز سے زور سے پکار کر کہا، بڑا بابل گر گیا، گر گیا، اور شیاطین کا مسکن، اور ہر ناپاک روح کا ٹھکانا، اور ہر ناپاک اور نفرت انگیز پرندے کا پنجرہ بن گیا ہے۔ کیونکہ سب قومیں اس کی زناکاری کے غضب کی بے پی چکی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے، اور زمین کے سوداگر اس کی عیش و عشرت کی فراوانی سے دولت مند ہو گئے ہیں۔ مکاشفہ 18:1-3۔

این سه آیه هنگامی تحقق یافت که بناهای عظیم نیویورک، یعنی برج‌های دوقلو، با لمسه‌ای از سوی خدا فرو افکنده شدند.

“اکنون این سخن از کجا آمده است که من اعلام کرده‌ام نیویورک باید به وسیله موجی عظیم روبیده شود؟ این را من هرگز نگفته‌ام. آنچه گفته‌ام این است که، هنگامی که به ساختمان‌های عظیمی که در آنجا طبقه بر طبقه بالا می‌رفتند می‌نگریستم، گفتم: «چه صحنه‌های هولناکی رخ خواهد داد آن‌گاه که خداوند برخیزد تا زمین را به شدت بلرزاند! آن‌گاه کلمات مکاشفہ ۱۸:۳-۳ به انجام خواهد رسید.» تمام یاب هجدهم مکاشفہ هشدار است از آنچه بر زمین خواهد آمد. اما من به‌طور خاص نوری درباره آنچه بر نیویورک خواهد آمد ندارم، جز این که می‌دانم روزی ساختمان‌های عظیم آنجا به واسطه چرخاندن و واژگون ساختن قدرت خدا فرو افکنده خواهند شد. از نوری که به من داده شده است، می‌دانم که هلاکت در جهان است. یک کلام از خداوند، یک لمس از قدرت عظیم او، و این بناهای سترگ فرو خواهند ریخت. صحنه‌هایی رخ خواهد داد که هولناکی آنها را نمی‌توانیم تصور کنیم.” ریویو اند هرالند، ۵ ژوئیه ۱۹۰۶.

قانون یکشنبه‌ای که به زودی خواهد آمد، به وسیله صدای دوم مکاشفہ باب هجده به تصویر کشیده شده است، و نمایانگر کوه کرمل آخاب و نیز ضیافت روز تولد هیروودیس است. هیروودیا، که همان ایزابل نیز هست، در ضیافت مستانه هیروودیس حاضر نیست، چنان که ایزابل نیز از کوه کرمل غایب بود. تا زمان قانون یکشنبه، او در طی هفتاد سال نمادین سلطنت وحش زمینی، یعنی ششمین پادشاهی نبوت کتاب مقدس، به فراموشی سپرده شده است. هنگامی که ایزابل در سال‌های 1798 و 1799 زخم مهلک خود را دریافت کرد، ششمین پادشاهی (ایالات متحده) دوره خود را به عنوان ششمین پادشاهی نبوت کتاب مقدس آغاز کرد. هنگامی که ششمین پادشاهی به پایان می‌رسد، آن‌گاه او باز می‌گردد و سرودهای خود را آغاز به خواندن می‌کند و با همه امت‌های روی زمین زنا می‌ورزد.

سرودهای زنا و شرابش به گونه‌ای نبوی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شد، اما آن تنها دوره آماده‌سازی بود، چنان که سی سال از ۵۰۸ تا ۵۳۸، نخستین باری که او تخت را به دست گرفت، مصور ساخته بود. تا هنگام قانون یکشنبه، آن‌گاه که پادشاهی ششم به دست ایلیا کشته می‌شود، او در سامره پنهان بوده است. در آن زمان، یحیی تعمیددهنده در زندان او نگاه داشته می‌شود و در انتظار رهایی است یا

مرگ۔

ہیروڈیس اور اُس کے معزز رفقا بابل کی مے سے مذبوش تھے، جب ہیروڈیاس (ایزیل) کی بیٹی سلومی نے اپنا نہایت فریبندہ رقص پیش کیا، اور ہیروڈیس اپنی شہوانی اور محرمانی خواہشات کا اظہار کرتا رہا۔ وہ اپنی سوتیلی بیٹی کی جنسی دل آویزیوں سے پوری طرح مسحور ہو جاتا رہا، اور اُسے اپنی سلطنت کا نصف تک دینے کی پیش کش کرتا رہا۔

اور جب ایک موافق دن آیا، کہ ہیروڈیس نے اپنی سالگرہ پر اپنے امیروں، سپہ سالاروں اور گلیل کے معززین کے لیے ایک ضیافت کی؛ اور جب مذکورہ ہیروڈیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچی، اور ہیروڈیس اور اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو پسند آئی، تو بادشاہ نے اُس لڑکی سے کہا، جو کچھ تو مجھ سے مانگے گی، میں تجھے دوں گا۔ اور اُس نے اُس سے قسم کھا کر کہا، جو کچھ تو مجھ سے مانگے گی، میں تجھے دوں گا، یہاں تک کہ اپنی بادشاہی کا آدھا حصہ بھی۔ اور وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا، میں کیا مانگوں؟ اُس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ اور وہ فوراً جلدی سے بادشاہ کے پاس اندر آئی اور درخواست کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے ابھی ایک تھال میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر دے۔ اور بادشاہ نہایت غمگین ہوا؛ لیکن اپنی قسم کے سبب سے، اور اُن کے سبب سے جو اُس کے ساتھ بیٹھے تھے، اُس نے اسے رد کرنا نہ چاہا۔ اور بادشاہ نے فوراً ایک جلاّد بھیجا اور حکم دیا کہ اُس کا سر لایا جائے؛ اور اُس نے جا کر قیدخانہ میں اُس کا سر قلم کیا، اور اُس کا سر ایک تھال میں لا کر اُس لڑکی کو دیا؛ اور اُس لڑکی نے وہ اپنی ماں کو دے دیا۔ مرقس 28-6:21

صدای نخستِ مکاشفہ ہجده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به صدا درآمد، و صدای دوم در قانون یکشنبه که به زودی خواهد آمد به صدا درمی آید۔ در تاریخی که در یوحنا فصل شش بازنمایی شده است، صدای نخست ۲۰۰۱، صدای مسیح بود که شاگردان خود را آگاه می ساخت که باید جسم او را بخورند و خون او را بنوشند، زیرا او نان حقیقی آسمان بود۔ آن دوره در جلیل آغاز شد و با پالایشی از شاگردان او که در یوحنا فصل شش، آیه شصت و شش از او روی گردانیدند، پایان یافت۔ آن تاریخ در جلیل با آزمونی خوراکی آغاز شد، و با اجرای نشان وحش پایان یافت، چنان که به وسیله عدد نام پاپ، یعنی شش، شش، شش، نمونه وار پیش نمایی شده است۔ جلیل به معنای «نقطه عطف» است، و ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ یک «نقطه عطف» نبوی (جلیل) بود، و زادروز هیروڈیس با رهبری جلیل همراه بود۔ صدای آغازین مکاشفہ فصل هجده، و صدای پایانی مکاشفہ هجده، هر دو به وسیله جلیل بازنمایی شده اند، که همان نقطه عطف است۔

«از تاریخ گذشته درس هایی باید آموخت؛ و توجه به این ها جلب می شود تا همه دریابند که خدا اکنون نیز بر همان اصولی عمل می کند که همواره کرده است۔ دست او اکنون نیز در کار خویش و در میان امت ها دیده می شود، درست همان گونه که از زمانی که انجیل نخستین بار به آدم در عدن اعلام شد، همواره دیده شده است۔»

«دوره هایی وجود دارند که نقاط عطفی در تاریخ ملت ها و کلیسا به شمار می آیند۔ در تدبیر الهی، هنگامی که این بحران های گوناگون فرا می رسند، نور مناسب آن زمان عطا می شود۔ اگر پذیرفته شود، پیشرفت روحانی پدید می آید؛ و اگر رد شود، انحطاط روحانی و شکست کامل در پی خواهد آمد۔ خداوند در کلام خویش کار پیش برنده انجیل را، همان گونه که در گذشته انجام شده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت، تا به نبرد نهایی، آشکار ساخته است؛ آنگاه که نیروهای شیطانی واپسین حرکت شگفت انگیز خود را به عمل خواهند آورد۔» Bible Echo, August 26, 1895

ਵਰਖਾ ਪਛਿਲੀ ਕੀ ਹਨ ਦਰਸਾਉਦੇ ਇਹ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਗਲੀਲ ਅਤੇ, ਵੀਚਿ 2001 ਗਲੀਲ ਬਾਨੀ ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਪਰ, ਸੀ ਉਡੇਲ ਹੋਈ ਮਾਪੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀਚਿ 2001 ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਉਡੇਲੀ ਕਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਉਡੇਲ ਮਹਾਨ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਣ ਮਾਰ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਆਲ ਵੱਲੋਂ ਏਲੀਆਹ ਕੀ ਜੀਵਿ, ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਉਡੇਲੀ ਦੇ ਮਾਪ

ਜਨਮਦਨਿ ਦਾ ਹੋਰੇਦ। ਸੀ ਵਾਪਰੀ ਵੱਚ ਦਾਅਤ ਦੀ ਜਨਮਦਨਿ ਦੇ ਹੋਰੇਦ ਜੇ, ਹੈ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਤਿ ਨਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਹਲਿ ਤੋ ਇਸ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਜੇ, ਹੈ ਕਰਦਾ ਪਹਚਾਣ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਵੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਈਬਲੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਵੇ, ਵੱਚ 1798 ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਜ ਸੰਯੁਕਤ। ਹੈ ਆਉਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਹਾਬ ਰਾਜ ਸੱਤਵਾਂ ਉਹ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਜਨਮਦਨਿ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਵੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਲ ਅਤੇ, ਕੀਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹੱਸੇ-ਦੱਸ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਰੋਮ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਜੇ—ਦੁਆਰਾ ਹੋਰੇਦ ਅਤੇ, ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹੱਸੇ-ਦੱਸ ਉੱਤਰੀ ਹੈ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਤਿ—ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

اور وہ دس سینگ جو تونے اُس درندہ پر دیکھے، یہی اُس فاحشہ سے عداوت رکھیں گے، اور اُسے اُجاڑ اور ننگا کر دیں گے، اور اُس کا گوشت کھائیں گے، اور اُسے آگ سے جلا دیں گے۔ کیونکہ خدا نے اُن کے دلوں میں یہ ڈالا ہے کہ اُس کی مرضی پوری کریں، اور ایک رائے ہو جائیں، اور اپنی بادشاہی درندہ کے حوالے کر دیں، یہاں تک کہ خدا کی باتیں پوری ہو جائیں۔ اور وہ عورت جسے تونے دیکھا، وہی بڑا شہر ہے، جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ مکاشفہ 17:16-18۔

ہیروڈیس موافقت می کند کہ سوگندی را کہ به سالومه خورده بود به جا آورد و سر یوحنا را به او بدهد، و سوگند او چنین نمودار شده بود که تا نصف پادشاهی اش را دربر می گرفت. ده پادشاه سازمان ملل متحد، با وجود آن که از آن فاحشه نفرت دارند، موافقت می کنند که پادشاهی هفتم خود را به سر هشتم، که از هفت سر پیشین است، واگذار کنند. آنان با پادشاهی ای موافقت می کنند که بر این پیش فرض استوار است که دولت جهانی با کلیسای جهانی او درهم آمیخته شود. اما این ازدواج ازدواجی لاتینی است نه انگلیسی، زیرا ازدواج ایشان چنین تصویر شده است که «زن» «بر پادشاهان» سلطنت می کند. در یک ازدواج لاتینی، خاندان نام خانوادگی زن را حفظ می کند، نه نام مرد را، و نام این ازدواج دوگانه عنصری مهم در روایت نبوی است.

«پادشاهان و فرمانروایان و حاکمان، نشان ضد مسیح را بر خود نهاده اند، و به صورت اژدهایی به تصویر کشیده شده اند که می رود تا با مقدسان—با آنان که احکام خدا را نگاه می دارند و ایمان عیسی را دارند—جنگ کند.» Testimonies to Ministers, 38.

ما این مطالعه را در مقاله بعدی ادامه خواهیم داد.

یہ وہ کلام ہے جو یسعیاہ بن آموص نے یہوداہ اور یروشلم کے بارے میں دیکھا۔ اور آخری ایام میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور ٹیلوں سے بلند ہوگا؛ اور سب قومیں اس کی طرف رواں ہوں گی۔ اور بہت سے لوگ جائیں گے اور کہیں گے، آؤ، ہم خداوند کے پہاڑ پر، یعقوب کے خدا کے گھر کو چڑھ چلیں؛ اور وہ ہمیں اپنی راہیں سکھائے گا، اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے؛ کیونکہ شریعت صیون سے صادر ہوگی، اور خداوند کا کلام یروشلم سے.... اور اُس دن سات عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی، ہم اپنی ہی روٹی کھائیں گی، اور اپنا ہی لباس پہنیں گی؛ فقط ہمیں تیرے نام سے کہلانے دے، تاکہ ہماری ننگ دور ہو۔ اُس دن خداوند کی شاخ حسین اور جلالی ہوگی، اور زمین کا پھل اسرائیل کے بیج نکلنے والوں کے لیے نہایت عمدہ اور خوش منظر ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو صیون میں باقی رہ جائے، اور جو یروشلم میں رہ جائے، وہ مقدس کہلائے گا، یعنی ہر ایک جو یروشلم میں زندوں میں لکھا گیا ہو: جب خداوند صیون کی بیٹیوں کی غلاظت کو دھو ڈالے گا، اور عدالت کی روح اور سوزاں روح کے وسیلہ سے یروشلم کے خون کو اُس کے بیچ میں سے پاک کر دے گا۔ یسعیاہ 3:2-4:1۔